

Amazigh Ramdane At Mansour

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنَ الْبَعْثِ فَإِذَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَالَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَالَقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنَقْرٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى
أَجَلٍ مَسْمَى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفَالًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشْدَادَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدَى
إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

A yimdanen! Ma di ccekk ay tellam f tnekra, ihi, Nekwni, s tidep, Nxelq ikwen seg wakal, sinna, si tiqqit n l\$ella, sinna, seg urgan, sinna, si tecriêt, texleq ur texliq, iwakken ad awen Nbeggen. Neppara, di tâabbuvin, ayen i £ ihwan, alamma d lajel ipwassnen. Sinna, Nessuffu\$ ikwen id d llufanat, sinna a ppim\$uôem. Segwen llan wid ippemmtén, u segwen win ara iawven d awessur, ard ur ippisin acemma seg wayen issen. A pwalid akal d a\$uôaô. Ma Nesse\$li d ageffur fellas, ad ikker, ad

icuff, a d ifk tayuga n yal üûenf uziyn n le\$ôus.